

بوسول انجکشن

120: ہر یونٹ میں شامل ہے
لیپرین (ام ایپ) 0.0004 ملی گرام

علامات: گائے/بھیڑ/بھیڑا/کبری

- فوکیورسٹ کے علاج کیلئے
- جنسی دراپیے میں تاخیر کے خاتمے کیلئے
- بہار کے دراپیے کو درست کرنے کیلئے
- شرجہ عمل میں اشافہ کیلئے

گھوڑیاں:

- پیڈ کے خارج کیلئے
- شرجہ عمل میں اشادہ کیلئے
- بہار کے دراپیے کو درست کرنے کیلئے

خوارک طریقہ استعمال:
گائے/بھیڑ: مندرجہ میں خوارک پتوں میں انجکشن لگائیں۔

خوارک

علامت

پیڈ کے ذیکل سے خارج کیلئے	2.5 ملی لیٹر
تمام جانوروں کو بیک وقت بہار میں لانے کیلئے	2.5 ملی لیٹر
فوکیورسٹ کیلئے	5 ملی لیٹر

گھوڑیاں: مندرجہ میں خوارک پتوں، زیر جلدیاں میں انجکشن لگائیں۔

خوارک

علامت

پیڈ کے ذیکل سے خارج کیلئے	5 ملی لیٹر (24 گھنے کے قابل)
شرجہ عمل میں اشادہ کیلئے	10 ملی لیٹر
بھیڑا/کبری: مندرجہ میں خوارک پتوں میں انجکشن لگائیں۔	
پیڈ کے ذیکل سے خارج کیلئے	1 ملی لیٹر
فوکیورسٹ کیلئے	2.5 ملی لیٹر

احتیاطی تدابیر:
25°C سے کم ہٹھی اور جگہ پر بھیں۔ جھٹھے سے بچائیں۔
دست نے پہن کر انجکشن لگائیں۔ دوبار تھہ پر گلنے کی صورت میں جلدی سے باٹھ جوہلیں۔

صرف جانوروں کے استعمال کیلئے




BOSSOL

Buserelin 0.0004%

Quality products, you can trust.

Injection















Head Office : SPL House, 82-R1, M. A. Johar Town, Lahore - Pakistan
Tel : + 92 42 36291774-5, 35314161 Fax : +92 42 35291776
E.mail : info@selmorepharma.com, sales@selmorepharma.com
www.selmorepharma.com



ISO Certified Company

BOSOL

Buserelin 0.0004%



Injection

COMPOSITION:

Each ml contains:
Buserelin Acetate (MS) 0.0042mg eq. to
Buserelin0.004mg

INDICATIONS:

Cattle/Buffalo/Sheep/Goat:


- Early cycle induction post-partum.
- Follicular cysts.
- Treatment of anoestrus
- Improvement of conception rate in artificial insemination procedures.
- Synchronization of oestrus with PGF_{2α} analogue.

Horses:

- Induction of ovulation to synchronize ovulation more closely with mating.
- Improvement of conception rate.
- Treatment of Follicular Cyst

CHARACTERISTICS

BOSOL injection containing Buserelin acetate is the synthetic analogue of GnRH hormone. GnRH leaves the hypothalamus via the hypophyseal portal vessels and enter to anterior lobe of hypophysis, where it induces the secretion of Follicle Stimulating Hormone (FSH) and Luteinizing Hormone (LH) into the peripheral blood stream. The release of FSH and LH have physiological role of maturation of follicles, ovulation and luteinizing in the ovary.



DOSAGE & ADMINISTRATION:

Cows/Buffalo:

Administer the following dose by intramuscular injection

Indication	Dose
Induction of ovulation with a dominant follicle	2.5 ml
Oestrous Synchronization (Day-0 Buserelin, Day-7 PGF _{2α} , Day-9 Buserelin)	2.5 ml
Follicular Cyst	5 ml

Mares:

Administer the following dose by intramuscular, subcutaneous or intravenous injection.

Indication	Dose
Induction of ovulation in oestrus mares or synchronizing ovulation	5ml twice, with interval of 24 hours
Improvement of conception rate (preferably 8 and 12 days after insemination or natural mating)	5-10 ml

Sheep/Goat:

Administer the following dose by intramuscular injection.

Indication	Dose
Induction of ovulation with a dominant follicle	1 ml
Oestrous Synchronization (Day-0 Buserelin, Day-7 PGF _{2α} , Day-9 Buserelin)	1 ml
Follicular Cyst	2.5 ml

PRECAUTIONS:

Withdrawal Period: Milk 0 days, Meat 0 days.

Do not freeze.


Observe the aseptic precautions and gloves during administration.

Pregnant women should not administer the product, as buserelin has been shown to be foetotoxic in laboratory animals.

Store below 25°C in a cool and dry place.

PACK SIZE:

2.5ml X 5 & 5ml X 5



Oestrus Cycle of Cow

Proestrus is characterized by a significant rise in estradiol produced by developing follicles
When estradiol rises to a certain level, the female enters oestrus behaviour and then ovulates.
Diestrus is characterised by a fully functional CL and high progesterone.